

صولتہ الضیف علی اعداء ابن مریم" کے نام سے کی جو مطبع سنگین لکھوڑے طابع ہوئی۔ مگر یہ بھی اُردو میں اپنے موضوع پر پہلی کتاب نہیں۔ اس سے دو سال پہلے ۱۲۳۶ھ/۱۸۳۰ء میں کسی نامعلوم مؤلف نے "رد نصاریٰ" کے نام سے ایک کتابچہ طابع کیا تھا۔ [تفصیل کے لیے دیکھیے: "عالم اسلام اور عیسائیت" بابت جنوری ۱۹۹۳ء، ص ۹-۱۳، فروری ۱۹۹۳ء، ص ۱۷-۱۸]

اگر مطبوعہ کتابوں کے ساتھ غیر مطبوعہ کتابوں کا ذکر کیا جائے تو "رد نصاریٰ" سے ایک سال پہلے (۱۲۳۵ھ) کی تالیف "جواب محمدیہ" کے قلمی نسخے ملتے ہیں۔ یہ کتاب اکرام الدین طاہر جہاں آبادی کی تالیف ہے اور جواب المجواب ہے مدراس کے ایک پادری کے رسالہ عیسوی کا، جو پادری مذکور نے ایک مسلمان عالم نعمت علی کے سوالوں کے جواب میں لکھا تھا۔ "جواب محمدیہ" کے نسخے برصغیر کے متعدد کتب خانوں میں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیے: [ڈاکٹر صلاح الدین، دہلی کے اُردو مخطوطات کی وصاحتی فہرست، دہلی: انجمن ترقی اُردو (ہند)، ۱۹۷۵ء، ص ۱۳۲]

"کتاب الاستفسار" کی زبان آج سے ڈیڑھ صدی پہلے کی زبان ہے۔ تاہم ذرا توجہ سے پڑھنے سے بات سمجھ میں آجاتی ہے، مگر مولانا اہل حسن مُمانی نے جہاں جہاں فارسی اقتباسات پیش کیے ہیں، اگر حواشی میں ان کے ترجمے دے دیے جاتے تو آج کے "فارسی ناشناس" قاری کے لیے سولت پیدا ہو جاتی۔

زیر تبصرہ اطاعت سفید کاغذ پر طبع ہوئی ہے اور ریگزین کی جلد کے ساتھ مرتب ہے۔ (اختر راہی)

* انا جیل اور ہمارے نبی ﷺ

* کمر صلیب از روئے بائبل و قرآن

* عقیدہ ابنیتِ مسیح علیہ السلام: حقائق کی روشنی میں

جناب عبداللطیف دسکوی مطالعہ مسیت سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ ان کی بعض تحریروں پر "عالم اسلام اور عیسائیت" میں تبصرہ لکھا جا چکا ہے۔ مندرجہ بالا پمفلٹوں کے موضوع ان کے عنوانات سے واضح ہیں۔ اول الذکر دو پمفلٹ اسلامی مشن - سنت، نگر، لاہور نے طابع کیے ہیں، جبکہ تیسرا پمفلٹ شعبہ نشر و اطاعت جامع مسجد خضریٰ - دسک (صلح سیالکوٹ) کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ "انا جیل اور ہمارے نبی ﷺ" دو حصوں میں منقسم ہے اور دونوں حصوں کی عبارت کا بڑا حصہ لفظ بلفظ ایک جیسا ہے۔ اس تکرار کی حکمت سمجھ میں نہیں آئی۔ (ادارہ)